

شہر خورچیا کا بدل

## Honningguidens hevn

- ✎ Zulu folktale
- ☞ Wiehan de Jager
- ☞ Samrina Sana
- 💬 urdu / bokmål
- 🔊 nivå 4

(uten bilder)



یہ ایک شہد خور چڑیا نگیدے اور ایک لا جھی آدمی گنگیلے کی کہانی ہے۔ ایک  
 دن جب گنگیلے شکار کے لیے باہر تھا اُس نے نگیدے کی پکار سُنی۔  
 گنگیلے کے مہ میں پانی بھر گیا جب اُس نے شہد کے بارے میں  
 سوچا۔ وہ رُک گیا اور اُس نے غور سے سُنا۔ جب تک کہ اسے اپنے  
 سر کے اوپر موجود ٹہنیوں پہ یہٹا پرندہ دکھائی نہیں دیا۔ چمک۔ چمک۔ چمک۔  
 چھوٹا پرندہ چپھایا جیسا کہ وہ الگے اور اس سے الگے درخت پر جا کر یہٹا۔  
 چمک۔ چمک۔ اُس نے بلایا۔ وقاً فرقاً وہ اس بات کو یقینی بنارہا تھا کہ  
 گنگیلے اُس کے پچھے ہے۔

...

Dette er historien om Ngede, honningguiden, og en  
 grådig ung mann ved navn Gingile. En dag mens Gingile  
 var ute på jakt, kalte Ngede på ham. Gingile fikk vann i  
 munnen ved tanken på honning. Han stoppet og lyttet  
 oppmerksomt, og lette til han så fuglen i grenene over  
 hodet sitt. "Tsjitikk, tsjitikk, tsjitikk", kvitret den lille

fuglen idet den fløy til det neste treet, og det neste.  
“Tsjitikk, tsjitikk, tsjitikk”, kallet han, og stoppet  
innimellan for å forsikre seg om at Gingile fulgte etter.

آدھر گھنٹے کے بعد، وہ ایک بڑے انجر کے درخت کے پاس پہنچے۔ اُس نے پاگلوں کی طرح ٹہنیاں چھانی۔ اور پھر وہ ایک ٹہنی پر آ کر رُک گیا جیسا کہ وہ گلگیلے سے کہنا چاہتا ہوا ب آو! یہ رہا! تمیں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ گلگیلے کو درخت کے نیچے کوئی مکھیاں دکھاتی نہ ہیں، لیکن اُس نے نگیڈے پر بھروسہ کیا۔

...

Etter en halvtime nådde de et stort vilt fikentre. Ngede hoppet rundt som en gal blant grenene. Han slo seg ned på en gren og strakk hodet mot Gingile som om han sa: "Her er det! Kom nå! Hvorfor bruker du så lang tid?" Gingile kunne ikke se noen bier fra under treet, men han stolte på Ngede.

اس لیے گمگیلے نے اپنا ہتھیار درخت کے نیچے رکھ دیا اور کچھ سوکھ لکڑیاں اٹھیں کر کے آگ جلانی۔ جب آگ ٹھیک سے جل رہی تھی اُس نے ایک لمبی سوکھی لکڑی درمیان میں رکھ دی۔ یہ لکڑی جلنے پر بہت سا دھواں دینے کے لیے جانی جاتی ہے۔ دوسری طرف سے لکڑی کا ٹھہڑا حصہ دانوں میں پکڑے درخت پے چڑھنے لگا۔

...

Så Gingile la spydet sitt ned under treet og samlet noen tørre kvister og tente et lite bål. Da ilden brant godt, stakk han en lang, tørr kjepp inn i hjertet av bålet. Denne veden var kjent for å lage mye røyk mens den brant. Han begynte å klatre mens han holdt den kjølige enden av kjeppen mellom tennene.

جلد ہی اُ سے مصروف مکھیوں کی آواز آنا شروع ہوئی۔ وہ درخت میں ایک سوراخ میں سے آ جا رہیں تھیں جو کہ اُن کا چھتہ تھا۔ جب گنگیلے پر چھتے کے پاس پہنچا اُس نے لکڑی کا جلتا ہوا حصہ مکھیوں کے چھتے میں ڈال دیا۔ مکھیاں غصے سے بھٹکناتی ہوئیں چھتے سے باہر نکلیں۔ وہ اُڑ گئیں کیونکہ انہیں دھواں پسند نہیں۔ لیکن اس سے پہلے نہیں جب تک وہ گنگیلے کو کچھ دردناک ڈنگ نہ مار لیتیں۔

...

Snart kunne han høre summingen til de travle biene. De kom inn og ut av et hulrom i trestammen – bolet deres. Da Gingile nådde bolet, dyttet han den rykende enden inn i hulrommet. Biene for ut, sinte og klare til angrep. De fløy bort siden de ikke likte røyken – men ikke før de hadde gitt Gingile noen smertefulle stikk!

جب مکھیاں باہر نکل گئیں، گنگیلے نے اپنا ہاتھ چھتے میں ڈالا اور چھتے کے حصوں کو باہر نکالا جو کہ شہد سے بھرے ہو تھے اور چری سے بھرے سعید گروں کو بھی باہر نکالا۔ اس نے شہد سے بھرے چھتے کو اپنے ٹھیلے میں رکھا اور کندھے پر پہن لیا اور درخت سے نیچے اُترنا شروع کر دیا۔

...

Da biene var ute, stakk Gingile hånden sin inn i bolet. Han tok ut håndfuller med tunge vokskaker som dryppet av deilig honning og var fulle av feite, hvite larver. Han la vokskakene forsiktig i veska han bar på skulderen og begynte å klatre ned fra treet.

نگیدے یہ سب بہت شوق سے دیکھ رہا تھا جو کچھ گلگیلے کر رہا تھا۔ وہ انتہار میں تھا کہ بطور شہد خور چڑیا شکریہ کے طور پر وہ اُس کو شہد دے گا۔ نگیدے ایک شاخ سے دوسری شاخ فردیک سے فردیک زمین پر اُس کے پاس جانے کی کوشش میں تھا۔ آخر کار گلگیلے درخت سے نیچے اُتر آیا۔ نگیدے اُس کے پاس پڑے ایک پتھر پر آگر روکا اور اپنے انعام کا انتہار کیا۔

...

Ngede så ivrig på alt Gingile gjorde. Han ventet på at han skulle legge igjen en tjukk vokskake som en takkegave til honningguiden. Ngede svinset fra gren til gren, nærmere og nærmere bakken. Til slutt nådde Gingile foten av treet. Ngede satt på en stein nær gutten og ventet på belønningen sin.

لیکن گنگیلے نے آگ بچائی، اپنا ہتھیار اٹھایا اور گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ پرندے کو نظر انداز کرتے ہو آئے۔ نگیدے نے غصے سے پکارا۔ وک۔ وک! ہر! گنگیلے رکا پرندے کو گھورا اور زور سے ہنسا۔ تھیں شہد چاہیے؟ واقعی یہ رے دوست؟ آہ لیکن میں نے خود سارا کام کیا اور ڈنگ کا درد سہا۔ وہ میں یہ منیدار شہد تھاہارے ساتھ کیوں بانہوں؟ اور وہ چلا گیا۔ نگیدے شدید غصے میں تھا اسے اُس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ اپنا بدلہ اے گا۔

...

Men Gingile slukket bålet, plukket opp spydet, begynte å gå hjem og overså fuglen. Ngede ropte sint: "SEI-er, SEI-er!" Gingile stoppet og stirret på den lille fuglen og lo høyt. "Du vil ha litt honning, du, lille venn? Ha! Men jeg gjorde alt arbeidet og fikk alle stikkene. Hvorfor skulle jeg dele noe av denne deilige honningen med deg?" Ngede var rasende! Dette var da ingen måte å behandle

ham på! Men han skulle få sin hevn.

ایک دن کئی ہفتوں کے بعد گنگیلے نے نگیدے کی شہد کے لیے پکار سئی۔ اُسے مزید ارشہد یاد تھا، اور اُس نے تیزی سے پرندے کا پچھا کیا۔ نگیدے کو جملہ کے کھارے پر لا کر وہ رک گیا جہاں کانٹوں کا ایک جھاڑ موجود تھا۔ آہ۔ گنگیلے نے سوچا کہ شہد کا چھتا اسی درخت میں ہو گا۔ اُس نے جلدی سے آگ جلانی اور دانٹوں میں جلتی ہوئی لکڑی کو دبا آئے درخت پر چڑھنے لگا۔ نگیدے یہ ٹھیک سب دیکھ رہا تھا۔

...

En dag flere uker senere hørte Gingile igjen kallet fra Ngede. Han husket den deilige honningen og fulgte ivrig etter fuglen nok en gang. Etter at den hadde ledet Gingile langs skogkanten, stoppet den for å hvile i et stort akasietre. "Å", tenkte Gingile. "Bolet må være i dette treet." Han tente raskt det lille bålet sitt og begynte å klatre med den rykende grenen mellom tennene. Ngede satt og ventet.

درخت چڑھتے ہو آئے گنگیلے نے غور کیا کہ اُس سے مکھیوں کی بھختنا نے کی آواز کیوں نہیں آ رہی۔ شاید چھتا درخت کی بہت گہرائی میں تھا۔ اُس نے سوچا۔ لیکن چھتے کے جا آئے وہ ایک چیز کے چہرے کو گھور رہا تھا۔ چیز اپنی نیند کے اتنے خراب ہو نے پر بہت غصہ تھی۔ اُس نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر ٹے ہو آئے مہکولاتا کہ وہ اپنے بڑے اور تیز دانت دکھا سکے۔

...

Gingile klætret, men lurte på hvorfor han ikke hørte den sedvanlige summingen. "Kanskje bolet er dypt inne i treet", tenkte han for seg selv. Han dro seg opp etter en annen gren. Men i stedet for bolet, stirret han inn i øynene til en leopard! Leopard var veldig sint fordi søvnens hennes ble så brått avbrutt. Hun knep igjen øynene og åpnet munnen for å vise de veldig lange og skarpe tennene sine.

اس سے پہلے کہ چیق اس پر جملہ کرتی۔ گنگیلے درخت سے نیچے اُمر آیا۔ جلد بازی میں اُس نے ایک ٹھنپ چھوڑی جس وجہ سے وہ سیدھا زمین پر آگرا اور اُس کا پاؤں مڑ گیا۔ وہ تیزی سے فرار ہوا۔ خوش قسمتی سے چیق نیند میں ہو نے کی وجہ سے اُس کا پچھانہ کر پائی۔ نگیدے، شہد خور چڑیا نے اپنا بدلہ اے لیا۔ اور گنگیلے نے سبق سیکھ لیا۔

...

Før Leopard kunne svinge labben etter Gingile, skyndte han seg ned fra treet. I hastverket bommet han på en gren og landet med et høyt brak på bakken og forstuet ankelen. Han hinket videre så fort han kunne. Heldigvis for ham var Leopard fortsatt for søvnig til å jage ham. Ngede, honningguiden, hadde fått sin hevn. Og Gingile hadde fått seg en lærepenge.

اور جب گنگیلے کے بچوں نے نگیدے کی کہانی سنی ان کے دل میں  
چھوٹے پرندے کے لیے عزت پیدا ہوئی۔ جب کہیں وہ شہد اُتار تے وہ  
اس بات کو یقینی بنتا تے کہ چھتے کا سب سے بڑا حصہ وہ شہد خور چڑیا  
کے لیے چھوڑ دیں گے۔

...

Og på den måten, når barna til Gingile hører fortellingen om Ngede, respekterer de den lille fuglen. Hver gang de sanker honning sørger de for å gi den største delen av vokskaka til honningguiden!



# Barnebøker for Norge

[barneboker.no](http://barneboker.no)

شہد خور چڑیا کا بدل

## Honnингguidens hevn

Skrevet av: Zulu folktale

Illustret av: Wiehan de Jager

Oversatt av: Samrina Sana (ur), Espen Stranger-Johannessen (nb)

Denne fortellingen kommer fra African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) og er videreformidlet av Barnebøker for Norge ([barneboker.no](http://barneboker.no)), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons  
[Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens](#).